

تفسير

سورة الاحقلاص

ابوزيد ضمير

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ، اللّٰهُ الصَّمَدُ،

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ﴾

[سورة الاخلاص: ۱-۴]

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

(اے نبی) آپ فرمادیجئے: وہ اللہ ہے، ایک ہے۔ اللہ صمد ہے۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور کوئی نہیں جو اس کی برابری کا ہو۔ [سورة الاخلاص]

Shuru Allah ke naam se jo bada maherban nihayat rahem wala hai

(Aye nabi) aap farma deejiiye: Woh Allah hai, ek hai. Allah samad hai. Na us ki koi aulad hai aur na woh kisi se paida huwa hai aur koi nahin jo us ki barabari ka ho. [Surah al-Ikhlaas]

اس سورۃ کا نام سورۃ الاخلاص کیوں ہے؟

قال ابن الأثير:

«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ هِيَ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ»
سُمِّيَتْ بِهِ لِأَنَّهَا خَالِصَةٌ فِي صِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى خَاصَّةً،
أَوْ لِأَنَّ اللَّافِظَ بِهَا قَدْ أَخْلَصَ (١) التَّوْحِيدَ لِلَّهِ تَعَالَى.
[النهاية في غريب الحديث والأثر (٢ / ٦١) خلص]

ابن اثير ﷺ فرماتے ہیں:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سورۃ الاخلاص ہے۔ اسے یہ نام اسلئے دیا گیا ہے کیوں کہ خالص اللہ ہی کی صفات سے متعلق ہے۔ یا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کا پڑھنے والا وہی ہوتا ہے جو توحید کو اللہ کیلئے خالص کر چکا ہوتا ہے۔
[النهاية في غريب الحديث والأثر]

Is Surah ka naam Surah al Ikhlāas kyun hai ?

Ibne Aseer ﷺ farmate hain:

(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) Qulhu wallahu ahad Surah al Ikhlāas hai. Usey yeh naam isliye diya gaya hai kyun ke khalis Allah hi ki sifaat se mutaliq hai. Ya yeh bhi wajah ho sakti hai ke is ka padhne wala wahi hota hai jo tauheed ko Allah ke liye khalis kar chuka hota hai.

[An-nihaya fi ghareebil hadees wal asar]

١ اخلاص کا معنی

قال ابن منظور: خَلَصَ الشَّيْءُ، بِالْفَتْحِ، يَخْلُصُ خُلُوصًا وَخِلَاصًا إِذَا كَانَ قَدْ نَشِبَ ثُمَّ جَاءَ وَسَلِمَ. وَأَخْلَصَهُ وَخَلَّصَهُ. [لسان العرب (٧ / ٢٦)]

قال المناوي: الخَالِصُ: الصَّافِي، لِكِنَّ الخَالِصَ مَا زَالَ شَوْبُهُ بَعْدَ مَا كَانَ فِيهِ، وَالصَّافِي يُقَالُ لِمَنْ لَا شَوْبَ فِيهِ. [التوقيف على مهمات التعاريف (ص: ١٥٨)]

۱. سورۃ الاخلاص کے فضائل

۱. سورۃ الاخلاص رحمن کی صفت ہے

عَنْ عَائِشَةَ ۞

أَنَّ النَّبِيَّ ۞ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ
وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِ فَيَخْتِمُ بِـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾

فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ۞

فَقَالَ: سَلُّوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ. فَسَأَلُوهُ،

فَقَالَ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا.

فَقَالَ النَّبِيُّ ۞: أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ.

[خ: التوحيد ۷۳۷۵ - م: صلاة المسافرين وقصرها ۱۳۴۷]

عائشہ ۞ فرماتی ہیں کہ نبی ۞ نے ایک صحابی کو ایک لشکر میں بھیجا۔ یہ صحابی اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تھے اور (ہر رکعت میں) سورۃ کے ختم پر سورۃ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) پڑھتے تھے۔ جب یہ لوگ واپس لوٹے تو انہوں نے یہ بات نبی ۞ کے سامنے بیان کی۔ آپ ۞ نے فرمایا: ان سے پوچھو یہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تو ان صاحب نے کہا: اس لیے کہ یہ رحمن کی صفت ہے اور مجھے یہ بات بہت محبوب ہے کہ میں اسے پڑھوں۔ اللہ کے نبی ۞ نے فرمایا: انہیں بتادو کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ [بخاری و مسلم]

1. Surah Ikhlāas ke Fazail

1. Surah al Ikhlāas rehman ki sifat hai

Aisha ۞ farmaati hain ke

Nabi ۞ ne ek sahabi ko ek lashkar mein bheja. Yeh sahabi apne sathiyon ko namaz padhate thhey aur (har raka'at mein) surah ke khatam par surah (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) padhte thhey. Jab yeh log wapas laute to unhon ne yeh baat Nabi ۞ ke samne bayan ki. Aap ۞ ne farmaya: un se pucho yeh aisa kyun karte hain. Unhon ne poocha to un sahab ne kaha: is liye ke yeh rehman ki sifat hai aur mujhe yeh baat bahot mehboob hai ke mein usey padhoon. Allah ke Nabi ۞ ne farmaya: Unhen batado ke Allah Ta'ala bhi un se mohabbat karta hai. [Bukhari wa Muslim]

۲. ایمان کی دلیل

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

أَنَّ رَجُلًا قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتِي الْفَجْرِ
فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} حَتَّى انْقَضَتِ السُّورَةُ
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَذَا عَبْدٌ عَرَفَ رَبَّهُ
وَقَرَأَ فِي الْآخِرَةِ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} حَتَّى انْقَضَتِ السُّورَةُ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَذَا عَبْدٌ آمَنَ بِرَبِّهِ
فَقَالَ طَلْحَةُ: فَأَنَا أَسْتَحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ فِي هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ.

(حب) [التعليقات الحسان ۲۴۵۱] (صحیح)

جابر بن عبد اللہ ﷺ سے روایت ہے:

ایک صاحب اٹھے اور فجر کی دو رکعتیں ادا کیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ [قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ] پوری پڑھی۔
اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ پھر انہوں نے دوسری رکعت میں
سورۃ [قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ] پوری پڑھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ وہ بندہ ہے جو اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے۔

[ابن حبان]

2. Imaan ki Daleel

Jabir bin Abdullah ﷺ se riwayat hai:

Ek sahab uthe aur fajr ki do raka'aten ada keen. Pehli rak'at mein surah
(قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) पूरी padhi. Allah ke Rasool ﷺ Ne farmaya: yeh woh
bandah hai jis ne apne Rabb ko pehchan liya. Phir unhon ne doosri rak'at
mein surah Qulhu wallahu Ahad (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) पूरी padhi. Aap ﷺ Ne
farmaya: Yeh woh bandah hai jo apne Rabb par imaan rakhta hai. [Ibne
Hibbaan]

۳. فجر کی سنتوں میں قراءت

قال ﷺ:

نِعْمَ السُّورَتَانِ

هُمَا يُقْرَأَانِ فِي الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ:

{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}.

(حب هب) عن عائشة. [صحيح الجامع ۶۷۷۳] (صحيح).

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

دو بڑی عمدہ سورتیں ہیں جنہیں فجر سے پہلے دو رکعتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ [قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ] اور [قُلْ

هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ] [ابن حبان، شعب الایمان]

3. Fajar ki sunnaton mein qira'at

Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya:

Do badi umdah suratein hain jinhein fajar se pehle do raka'aton mein padha jata hai. (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) aur (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ). [Ibne Hibbaan, Shoabul Imaan]

وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ

فِي رُكْعَتَيْ الْفَجْرِ تَارَةً سُورَةَ الْإِخْلَاصِ وَ{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}

فَفِي {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} عِبَادَةُ اللَّهِ وَحْدَهُ وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ

وَفِي {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} صِفَةُ الرَّحْمَنِ

وَأَنْ يُقَالَ فِيهِ وَيُخْبَرُ عَنْهُ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ وَهُوَ الْإِيمَانُ

هَذَا هُوَ التَّوْحِيدُ الْقَوْلِيُّ وَذَلِكَ هُوَ التَّوْحِيدُ الْعَمَلِيُّ. [مجموع الفتاوى (١٩٩ / ١٧١)]

ابن تيمية رحمته فرماتے ہیں:

اللہ کے رسول ﷺ اپنی فجر کی (سنت) دو رکعتوں میں کبھی سورۃ الاخلاص اور قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھا کرتے تھے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ میں ایک اللہ کی عبادت کی بات ہے۔ جو کہ دین اسلام ہے۔ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ میں رحمن کی صفت ہے اور اس سورۃ میں وہ بات ہے جو اللہ کے بارے میں کہی جانی چاہیے اور اس کے بارے میں دوسروں کو خبر دی جانی چاہیے اور یہ ایمان ہے۔ یہ توحید قولی ہے اور وہ توحید عملی ہے۔ [مجموع الفتاوى]

IbneTaimiyah رحمته farmate hain:

Allah ke Rasool ﷺ apni fajar ki (sunnat) do rak'aton mein kabhi Surah al Ikhlaas (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) aur (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) padha karte they. (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) mein ek Allah ki ibadat ki baat hai. Jo ke deene islam hai. (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) mein rehman ki sifat hai aur is Surah mein woh baat hai jo Allah ke baare mein kahi jani chahiye aur is ke baare mein dusron ko khabar di jani chahiye aur yeh imaan hai. Yeh tauheed qauli hai aur woh tauheed amali hai. [Majmu ul fatawa]

۴. وتر کی نماز میں سورۃ الاحلاص کی تلاوت

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْوَتْرِ

بِ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}

و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فِي رَكْعَةٍ رَكْعَةٍ.

(ت ن هـ) [سنن الترمذی للألبانی ۴۶۲] (صحیح)

ابن عباس ؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں:

اللہ کے نبی ﷺ نماز وتر میں ایک رکعت میں [سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى]، دوسری رکعت میں [قُلْ يَا أَيُّهَا

الْكَافِرُونَ] اور تیسری رکعت میں [قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ] پڑھا کرتے تھے۔ [ترمذی، نسائی، ابن ماجہ]

4. Witr ki namaz mein Surah al Ikhlaas ki tilaawat

Ibne Abbas ؓ se riwayat hai farmate hain:

Allah ke Nabi ﷺ Namaze witr mein ek rak'at mein sabbi hisma rabikal

aala (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى)، doosri rak'at mein Qulya ayyuhal kafiroon

(قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) aur teesri rak'at mein Qulhu wallahu Ahad

(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) padha karte thhey. [Tirmizi, Nasaai, Ibne Maajah]

۵. سورة الاخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ

عَنْ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَ: أَيْعِزُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ

قَالُوا وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ

قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.

[م: صلاة المسافرين وقصرها ۱۳۴۴]

ونحوه عند البخاري [تفسير القرآن ۵۰۱۵] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

کیا تم میں سے ایک آدمی رات بھر میں ایک تہائی قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا؟ لوگوں نے کہا: آدمی ایک تہائی قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔

[مسلم] اسی کے قریب بخاری میں ابو سعید رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔

5. Surah al Ikhlaas ek tihai quran ke barabar hai

Abu Darda رضی اللہ عنہ se riwayat hai ke Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya:

kya tum mein se ek aadmi raat bhar mein ek tihai quran bhi nahin padh sakta? Logon ne kaha: aadmi ek tihai quran kaise padh sakta hai. Aap ﷺ ne farmaya: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) ek tihai quran ke barabar hai.

[Muslim] isi ke qareeb Bukhari mein Abu Saeed رضی اللہ عنہ se bhi marwi hai.

۶. پچھلی کتابوں میں ان سورتوں کے مثل کچھ نہیں

قال ﷺ:

يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ، أَلَا أَعْلَمُكَ سُورًا
مَا أَنْزَلْتُ فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الزَّبُورِ
وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلَهُنَّ
لَا يَأْتِيَنَّ عَلَيْكَ لَيْلَةٌ إِلَّا قَرَأْتَهُنَّ فِيهَا:
{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}.
(حب حم) عن عقبة بن عامر [الصحيحه ۸۹۱، ۲۸۶۱] (صحيح)

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

اے عقبہ بن عامر، کیا میں تمہیں ایسی سورتیں نہ سکھاؤں کہ ان جیسی سورۃ نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے اور نہ ہی فرقان میں ہے۔ جو بھی رات تم پر آئے تمہیں چاہیے کہ اس رات میں تم ضرور ان کی تلاوت کرو۔ (وہ سورتیں یہ ہیں) {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}، {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} [ابن حبان، مسند احمد]

6. Pichli kitabon mein in suraton ke misl kuch nahin

Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya:

Aye Uqbah bin 'Aamir, kya mein tumhe aisi suratein na sikhaon ke un jaisi Surah na Taurat mein hai, na Injeel mein hai aur na hi Furqan mein hai. Jo bhi raat tum par aaye tumhe chahiye ke us raat mein tum zaroor un ki tilawat karo. (woh suratein ye hain) {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}، {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}.

[Ibne Hibbaan, Musnad Ahmad]

۷. سب سے بہترین تعوذ

قال ﷺ:

يَا عَقْبَةُ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}
{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}
مَا تَعَوَّذَ بِمِثْلِهِنَّ أَحَدٌ.

(ن) عن عقبه بن عامر. [صحيح الجامع ٧٩٥٠] (صحيح).

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

اے عقبہ، (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)، (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ)، (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) کی طرح کوئی اور چیز نہیں جن سے کسی نے اللہ کی پناہ طلب کی ہو۔ [نساہی]

7. Sab se behtar Ta'awwuz

Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya:

Aye Uqbah, (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ), (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ), (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) ki tarh koi aur cheez nahin jin se kisi ne Allah ki panah talab ki ho. [Nasaai]

قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ
نَفَثَ فِي كَفَيْهِ بِقُلِّ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَبِالْمُعَوِّذَتَيْنِ جَمِيعًا
ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَمَا بَلَغَتْ يَدَاهُ مِنْ جَسَدِهِ
قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا اشْتَكَى كَانَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِهِ. [خ: الطب ٥٧٤٨]

عائشہ ۞ سے روایت ہے کہ:

اللہ کے رسول ﷺ جب اپنے بستر پر جاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں میں [قُلِّ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ] اور معوذتین (یہ تینوں سورتیں) پڑھ کر نفث کرتے تھے۔ پھر دونوں ہتھیلیاں اپنے چہرے اور اپنے سارے بدن پر جہاں تک ہاتھ پہنچتے پھیر لیتے۔ فرماتی ہیں: پھر جب آپ بیمار ہو گئے تو آپ مجھے حکم دیتے کہ میں آپ کیلئے ایسا کروں۔

[بخاری]

Aisha ۞ se riwayat hai ke:

Allah ke Rasool ﷺ jab apne bistar par jate to apni dono hatheliyon mein (قُلِّ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) aur muaw-wizatain (yeh teeno suratein) padh kar nafas karte thhey. Phir dono hatheliyan apne chehre aur apne saare badan par jahan tak haath pahunchte phair lete. Farmaati hain: phir jab aap beemaar hogaye to aap mujhe hukum dete ke mein aap ke liye aisa karoon. [Bukhari]

۸. ہر چیز سے کفایت

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ قَالَ
خَرَجْنَا فِي لَيْلَةٍ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ
نَطَلَبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ لَنَا
فَأَذْرَكُنَاهُ فَقَالَ أَصَلَّيْتُمْ فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا
فَقَالَ: قُلْ فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ قُلْ فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا
ثُمَّ قَالَ قُلْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَقُولُ
قَالَ قُلْ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وَالْمُعَوَّذَتَيْنِ
حِينَ تُنْمَسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.
(۳) عن عبد الله بن خبيب. [صحيح الجامع ۴۴۰۶] (صحيح).

عبد اللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں:

ایک بہت ہی تاریک رات جس میں بارش بھی ہو رہی تھی ہم اللہ کے رسول ﷺ کی تلاش میں نکلے کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ پس ہم نے آپ کو تلاش کر لیا۔ آپ نے فرمایا: تم لوگوں نے نماز پڑھی لی؟ اس پر میں نے کچھ نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا: بولو! میں پھر بھی کچھ نہ بولا۔ آپ نے فرمایا: کچھ کہو! میں نے کہا کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا: جب تم صبح کرو اور جب شام کرو تو تین مرتبہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اور معوذتین پڑھو۔ یہ چیز تمہارے لیے (ہر شر سے حفاظت کیلئے) کافی ہو جائے گی۔ [ابوداؤد، ترمذی، نسائی]

8. Har cheez se kifaayat

Abdullah bin khubaib رضی اللہ عنہ se riwayat hai, farmate hain:

Ek bahot hi taareek raat jis mein barish bhi ho rahi thi hum Allah ke Rasool ﷺ ki talaash mein nikle ke aap hamein namaz padhain. Pas hum ne aap ko talaash karliya. Aap ne farmaya: tum logon ne namaz padh li? Is par mein ne kuch nahin kaha. Aap ne farmaya: bolo! Mein phir bhi kuch na bola. Aap ne farmaya: kuch kaho! Mein ne kaha kya padhoon? Aap ne farmaya: jab tum subah karo aur jab shaam karo to teen martaba (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) aur muaw-wizatain (yeh teenon suratein) padho. Yeh cheez tumahre liye (har shar se hifazat ke liye) kaafi hojaye gi.

[Abu Dawood, Tirmizi, Nasaai]

۹. سورة الاخلاص کا پڑھنا جنت میں داخلہ کا سبب ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

أَقْبَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ

فَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ

{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ}

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَجِبَتْ

قُلْتُ: وَمَا وَجِبَتْ؟ قَالَ: الْجَنَّةُ.

(ت ن ط ك) واللفظ للترمذي [سنن الترمذي للألباني ۲۸۹۷] [صحيح الترغيب ۱۴۷۸] (صحيح)

ابو ہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ:

میں اللہ کے نبی ﷺ کے ساتھ آیا تو آپ نے ایک شخص کو [قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ] پڑھتے سنا۔ آپ ﷺ

نے فرمایا: اس کیلئے واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا: کیا واجب ہو گئی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جنت۔

[ترمذی، نسائی، موطا، حاکم]

9. Surah al Ikhlaas ka padhna jannat mein dakhle ka sabab hai

Abu-Hurairah ؓ se riwayat hai ke:

Mein Allah ke Nabi ﷺ Ke sath aaya to aap ne ek shakhs ko (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ) padhte suna. Aap ﷺ ne farmaya: is ke liye wajib hogayi. Mein ne poocha: kya wajib hogayi? Aap ﷺ ne farmaya: Jannat.

[Tirmizi, Nasaai, Muwatta, Haakim]

قال ﷺ:

مَنْ قَرَأَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} عَشْرَ مَرَّاتٍ
بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

(حم) عن معاذ بن أنس. [صحيح الجامع ٦٤٧٢] (صحيح).

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

جو شخص دس مرتبہ [قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ] (یعنی سورۃ الاخلاص) پڑھے اللہ تعالیٰ اس کیلئے جنت میں ایک گھر تعمیر

فرماتا ہے۔ [مسند احمد]

Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya:

Jo shakhs das martaba (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) (yaani Surah al-Ikhlaas) padhe Allah Ta'ala us ke liye Jannat mein ek ghar tameer farmata hai.

[Musnad Ahmad]

۱۰. سورۃ الاحلاص سے محبت جنت کا سبب ہے

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُؤْمَهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ
وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتِحَ سُورَةٌ يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ
مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ افْتَتِحَ بِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}
حَتَّى يَقْرَأَ مِنْهَا، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ
فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهَذِهِ السُّورَةِ
ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّهَا تُجْزِيكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِأُخْرَى
فِيمَا أَنْ تَقْرَأَ بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَدْعَهَا وَتَقْرَأَ بِأُخْرَى
فَقَالَ مَا أَنَا بِتَارِكِهَا، إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أُؤَمِّكُمْ بِذَلِكَ فَعَلْتُ، وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ.
وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ وَكَرِهُوا أَنْ يُؤْمَهُمْ غَيْرُهُ
فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ
فَقَالَ: يَا فَلَانُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ؟
وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومِ هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ.
فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّهَا. فَقَالَ: حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ. [خ: الآذان ۷۷۴]

انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

ایک انصاری صحابی تھے جو مسجد قباء میں لوگوں کے امام تھے۔ جب بھی وہ نماز میں کوئی سورہ پڑھتے اس سے پہلے سورہ قل هو الله احد بھی پڑھتے۔ اس کے بعد وہ دوسری سورہ پڑھتے۔ اور ہر رکعت میں وہ ایسا ہی کرتے۔ لوگوں نے اس معاملے میں ان سے بات کی اور کہا: تم اس سورہ سے شروعات کرتے ہو اور پھر اس کے بعد دوسری سورہ پڑھتے ہو گویا کہ یہ ایک سورہ تمہارے لیے کافی نہیں۔ یا تو تم یہی ایک سورہ پڑھو یا پھر اسے چھوڑ کر صرف دوسری سورہ پڑھو۔ ان صاحب نے کہا: میں اسے پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تمہیں ٹھیک لگے تو میں اسے پڑھنے کے اہتمام کے ساتھ تمہاری امامت کروں گا اور اگر تمہیں پسند نہ ہو تو میں تمہاری امامت ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ ان میں امامت کیلئے سب سے بہتر شخص یہی ہیں اور انہیں یہ بات پسند نہ تھی کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا ان کی امامت کرے۔ پھر جب اللہ کے نبی ﷺ ان کے ہاں تشریف لائے تو انہیں نے یہ سارا معاملہ آپ سے بیان کیا۔ آپ نے ان صاحب سے پوچھا: اے فلاں، تمہیں اپنے ساتھیوں کی بات ماننے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اور تم ہر رکعت میں اس سورہ کے پڑھنے کا التزام کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: مجھے اس سورہ سے بہت محبت ہے۔ آپ نے فرمایا: تمہاری اس سورہ سے محبت تمہیں جنت میں لے گی۔ [بخاری]

10. Surah al Ikhlaas se mohabbat jannat ka sabab hai

Anas رضي الله عنه farmate hain:

Ek ansari sahabi thhey jo masjid e Quba mein logon ke imam thhey. Jab bhi woh namaz mein koi Surah padhte is se pehle Surah Qulhu wallahu Ahad (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) bhi padhte. Is ke baad woh doosri Surah padhte. Aur har rak-at mein woh aisa hi karte. Logon ne is muamle mein un se baat ki aur kaha: tum is Surah se shuruat karte ho aur phir is ke baad doosri Surah padhte ho goya ke yeh ek Surah tumahre liye kaafi nahin. Ya to tum yahi ek Surah padho ya phir usey chhod kar sirf doosri surah padho. Un sahab ne kaha: mein usey padhna nahin chhod doonga. Agar tumhe theek lagey to mein usey padhne ke ehtimam ke sath tumhari imamat karoon ga aur agar tumhe pasand na ho to mein tumhari imamat hi chhod deta hon. Logon ko maloom tha ke un mein imamat ke liye sab se behtar shakhs yahi hain aur inhen yeh baat pasand na thi ke un ke alawa koi dusra un ki imamat kare. Phir jab Allah ke Nabi ﷺ Un ke haan tashreef laaye to unhi ne yeh sara muamla aap se bayan kiya. Aap ne un sahab se poocha: Aye fulan, tumhe apne sathiyon ki baat maanne mein kya rukaawat hai? Aur tum har rak'at mein is surah ke padhne ka iltazam kyun karte ho? Unhon ne kaha: mujhe is surah se bahot mohabbat hai. Aap ne farmaya: tumhari is surah se mohabbat tumhe jannat mein le gayi. [Bukhari]

۲. شان نزول

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ:
أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: انْسُبْ لَنَا
رَبَّكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:
{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ
لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
(حم ت) [سنن الترمذي بتحقيق الألباني ۳۳۶۴] (حسن)

أبي بن كعب رضي الله عنه سے روایت ہے:
مشرکین نے اللہ کے نبی ﷺ سے کہا: ہمیں اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ [قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ]۔
[مسند احمد، ترمذی]

2. Shaan-e-nuzool

Ubai bin ka'ab رضي الله عنه se riwayat hai:

Mushrikeen ne Allah ke Nabi ﷺ Se kaha: hamein apne Rabb ka nasab bayan karo. Is par Allah Ta'ala ne yeh surat nazil farmai.

{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ}.

[Musnad Ahmad , Tirmizi]

۳. سورۃ الاخلاص سے متعلق بعض حقائق

- ۱۔ یہ سورت مکی ہے۔
- ۲۔ یہ مختصر ترین سورتوں میں سے ہے۔
- ۳۔ یہ سورت تمام تر اللہ کے اوصاف سے متعلق ہے۔
- ۴۔ لفظ احد صرف اسی سورۃ میں ہے۔
- ۵۔ لفظ الصمد صرف اسی سورۃ میں ہے۔
- ۶۔ اس سورۃ کی پہلی دو آیتوں میں اللہ کی صفات اثبات کے انداز میں بیان کی گئی ہیں اور دوسری دو آیتوں میں نفی کے انداز میں، تقدیس و تسبیح۔
- ۷۔ اس سورت میں دہریوں، مجوسیوں، مشرکین یہود و نصاریٰ اور معطلہ اور مشبہہ کا انکار ہے۔
- ۸۔ اس سورت میں اللہ کے اولاد، ماں باپ اور بیوی اور شریک سب کی نفی ہے۔
- ۹۔ اس میں اللہ کے بارے میں دوسروں کو بتانے کا عام حکم ہے۔
- ۱۰۔ اس سورت میں یہ اشارہ موجود ہے کہ اللہ کا اسم ذاتی اللہ ہے۔

3. Surah al Ikhlaas se mutalliq baaz haqayiq

Yeh Surah Makki hai.

Yeh mukhtasar tareen suraton mein se hai.

Yeh Surah tamam tar Allah ke ausaf se mutalliq hai.

Lafz ahad sirf isi Surah mein hai.

Lafz as-Samad sirf isi Surah mein hai.

Is Surah ki pehli do ayaton mein Allah ki sifaat isbat ke andaaz mein bayan ki gayi hain aur doosri do ayaton mein nafi ke andaaz mein, taqdees o tasbeeh.

Is surat mein dahriyon, majusiyon, mushrikeen, yahood o nasara aur muattala, aur mushabbaha ka inkaar hai.

Is surat mein Allah ke aulaad, maa baap aur biwi aur shareek sab ki nafi hai.

Is mein Allah ke bare mein dusron ko batane ka aam hukm hai.

Is surat mein yeh ishara maujood hai ke Allah ka isme zaati Allah hai.

تفسير

سورة الاخلاص

Tafseer Surah al-Ikhlaas

اجمالی تفسیر

قال الشنقيطي:

يَتَّضِحُ أَنَّ السُّورَةَ

كُلُّهَا تَفْسِيرٌ لِأَوْلِهَا {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

لِأَنَّ الْأَحَدِيَّةَ هِيَ تَفَرُّدُهُ سُبْحَانَهُ بِصِفَاتِ الْجَلَالِ وَالْكَمَالِ كُلِّهَا

وَلِأَنَّ الْمَوْلُودَ لَيْسَ بِأَحَدٍ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ وَالِدِهِ.

وَالْوَالِدُ لَيْسَ بِأَحَدٍ لِأَنَّ جُزْءًا مِنْهُ فِي وَالدِهِ.

وَكَذَلِكَ مَنْ يَكُونُ لَهُ كُفْءٌ فَلَيْسَ بِأَحَدٍ لَوْجُودِ الْكُفْءِ

وَهَكَذَا السُّورَةُ كُلُّهَا لِتَقْرِيرِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.

[أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ٩ / ١٥٠]

علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اس سورت کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پوری سورت اس کی پہلی آیت [قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ] کی تفسیر ہے۔ اس لیے کہ احدیت تمام تر اللہ تعالیٰ کی صفات جلال و کمال میں تفرّد کا نام ہے۔ کیونکہ مولود احد نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اپنے والد کا جزء ہے۔ اسی طرح والد بھی احد نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا جزء اس کے ولد میں ہے۔ اسی طرح جس کیلئے کفو (یعنی ہمسر) ہے وہ بھی اپنے ہمسر کے وجود کے سبب احد نہیں ہو سکتا۔ اس طرح یہ پوری سورت قل هو اللہ احد کے اثبات کیلئے ہے۔ [اضواء البيان]

Ijmalī Tafseer

Allamah Shanqeeti رحمۃ اللہ علیہ farmate hain: is surat ke mutale se yeh baat wazeh hojati hai ke poori surat is ki pehli aayat (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) ki tafseer hai. Is liye ke ahadiyyat tamam tar Allah Ta'ala ki sifaat jalal o kamaal mein tafarrud ka naam hai. Kyunke maulood ahad nahin ho sakta kyunke woh apne waalid ka juz hai. Isi tarh walid bhi ahad nahin ho sakta kyunke us ka juz us ke wald mein hai. Isi tarh jis ke liye kufw (yaani humsar) hai woh bhi apne humsar ke wujood ke sabab ahad nahin ho sakta. Is tarh yeh poori surat Qulhu wallahu Ahad (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) ke isbat ke liye hai. [Azwa ul bayan]

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾^(١)

١ أَلِهَ: حيرت

قال ابن منظور:

وَقِيلَ فِي اسْمِ الْبَارِي سُبْحَانَهُ إِنَّهُ مَأْخُودٌ مِنْ أَلِهَ يَأْلَهُ إِذَا تَحَيَّرَ، لِأَنَّ الْعُقُولَ تَأْلَهُ فِي عَظَمَتِهِ. [لسان العرب (١٣ / ٤٦٩)]

أَلِهَ: معبود

قال ابن فارس^(١):

(أَلِهَ) الْأَلِهَةُ وَاللَّامُ وَالْهَاءُ أَصْلُ وَاحِدٌ، وَهُوَ التَّعَبُّدُ. فَالْإِلَهَ اللَّهُ تَعَالَى، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ مَعْبُودٌ. [مقاييس اللغة (١ / ١٢٧)]

وَأَلِهَ: واليه يرجع

قال أبو الهيثم:

وَأَصْلُ إِلِهَ وَلاةٌ^(١)، فَتَلَبَّتِ الْوَاوُ هَمْزَةً... وَمَعْنَى وَلاةٍ أَنْ الْخَلْقَ يَوَلُّونَ إِلَيْهِ فِي حَوَائِجِهِمْ، وَيَضْرَعُونَ إِلَيْهِ فِيمَا يُصِيبُهُمْ، وَيَفْرَعُونَ إِلَيْهِ فِي كُلِّ مَا يَنْوِبُهُمْ، كَمَا يَوَلُّهُ

كُلُّ طِفْلٍ إِلَى أُمِّهِ. [لسان العرب (١٣ / ٤٦٨)]

۱. اللہ (۱) کا معنی

أَلَهٌ: معبود

قال ابن فارس (۱):

(أَلَهٌ) الهمزة واللام والهاء أصل واحد، وهو التَّعْبُدُ.

فَأَلِلهُ اللهُ تَعَالَى، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ مَعْبُودٌ. [مقاييس اللغة (۱/ ۱۲۷)]

ابن فارس کہتے ہیں:

لفظ أَلَهٌ همزة لام اور هاء سے بنا ہے۔ اس کی ایک اصل ہے اور وہ ہے تعبد۔ پس الہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو الہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ معبود ہے۔ [مقاييس للغة]

1. Allah ka Maa'na

Alaha – Ma'bood

Ibne Faras kahte hain:

lafz alaha (أَلَهٌ) hamza laam aur haa se bana hai. Is ki ek asal hai aur woh hai ta'abbud. Pas ilah Allah Ta'ala hai. Allah Ta'ala ko ilah isi liye kaha gaya hai ke woh ma'bood hai. [Maqaeesul lugha]

۱ قال الجوهري:

أَلَهٌ بِالْفَتْحِ إِلهَةٌ، أَي عِبَادَةٌ. [الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية (۶/ ۲۲۲۳)]

الجوهري، أبو نصر (۰۰۰ - ۳۹۳ هـ)

إسماعيل بن حماد الجوهري، أبو نصر: أول من حاول (الطيران) ومات في سبيله. لغوي، من الأئمة.

۲ أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: ۳۹۵ هـ)

۲. اللہ اسم ذات ہے یا اسم صفت

سارے نام اسم «اللہ» کے تابع ہیں

قال تعالى:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. [طه: ۸]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اللہ، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کے (بہت سے) اچھے اچھے نام ہیں۔ [سورۃ طہ: ۸]

2. Allah isme zaat hai ya isme sifat

Saare naam ism ((Allah)) ke taabe hain.

Allah Ta'ala ne farmaya:

Allah, us ke siwa koi haqeeqi ma'bood nahin, us ke (bahot se) achhey achhey naam hain. [Surah Taha 8]

«اللہ» سے مراد حقیقی معبود ہے

قال تعالى:

وَهُوَ اللَّهُ^(۱) فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ
يَعْلَمُ سِرُّكُمْ وَجَهْرُكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. [الأنعام: ۳]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وہ اللہ ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وہ جانتا ہے تمہاری سرگوشیوں کو اور تمہارے جسر کو اور جو کچھ تم کھاتے ہو۔ [سورۃ الانعام ۳]

((Allah)) se murad haqeeqi ma'bood hai

Allah Ta'ala ne farmaya:

Woh Allah hai, asmanon mein bhi aur zameen mein bhi. Woh jaanta hai tumhari sargoshiyon ko aur tumahre jahr ko aur jo kuch tum kamaate ho. [Surah al-An'am 3]

^۱ قال تعالى: وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. [القصص: ۷۰]

۱. «الْاَحَد» بھی اللہ کا نام ہے

قَالَ ﷺ:

قَالَ اللَّهُ: كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لَنْ يُعِيدَنِي، كَمَا بَدَأَنِي،

وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا^(۱)

وَأَنَا الْاَحَدُ الصَّمَدُ، لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُوَلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفْمًا اَحَدٌ. [خ: تفسير القرآن ۴۹۷۴] عن أبي هريرة

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، اور اس کیلئے ایسا کرنا ہر گز بھی مناسب نہیں۔ وہ مجھے گالی دیتا ہے جبکہ اس کیلئے ایسا کرنا ہر گز بھی مناسب نہیں۔ اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں جس طرح اسے پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح اسے دوبارہ پیدا نہیں کروں گا۔ حالانکہ پہلی بار پیدا کرنا دوسری بار سے آسان نہیں۔ اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ جبکہ میں احد ہوں، صمد ہوں، نہ مجھ سے کوئی مولود ہے اور نہ میں کسی سے مولود ہوں اور کوئی میرا ہمسر نہیں۔ [بخاری]

3. Ahad aur al-Ahad

1. Al-Ahad bhi Allah ka naam hai

Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya:

Allah Ta'ala farmata hai: Ibne aadam mujhe jhutlata hai, aur us ke liye aisa karna hargiz bhi munasib nahin. Woh mujhe gaali deta hai jabke us ke liye aisa karna hargiz bhi munasib nahin. Us ka mujhe jhutlana yeh hai ke woh kehta hai ke mein jis tarh usey pehli baar paida kiya tha usi tarh usey dobarah paida nahin karoon ga. Halanke pehli baar paida karna doosri baar se asan nahin. Aur us ka mujhe gaali dena yeh hai ke woh kehta hai ke Allah Ta'ala ne kisi ko apna beta bana liya hai. Jabke mein Ahad hoon, Samad hoon, na mujh se koi maulud hai aur na mein kisi se maulud hoon aur koi mera humsar nahin. [Bukhari]

۱ قال ﷺ: مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَىٰ أَدَىٰ يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ لَهُ نِدَاءً، وَيَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ وَيُعْطِيهِمْ.

[خ: الأدب ۶۰۹۹-م: صفة القيامة والجنة والنار ۵۰ - (۲۸۰۴)] عن أبي موسى

۲. اسم اعظم

عن بُرَيْدَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنِّي أَشْهَدُ

أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ،

الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ،

فَقَالَ: لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ بِالِاسْمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ.

(د ت ه ح م) [د بتحقيق الألباني ١٤٩٣] (صحيح)

بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ایک شخص کو یوں کہتے سنا:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ،

الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

(اے اللہ، میں اس بات کی بنیاد پر تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ (یعنی حقیقی معبود) ہے۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو احد ہے صمد ہے جس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: تم نے اللہ تعالیٰ سے اس کے ایک ایسے نام کے ذریعے اس سے دعا کی کہ جب اس نام کے ذریعے اس سے کچھ مانگا جائے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے اور اس سے دعا کی جائے تو وہ ضرور قبول کرتا ہے۔ [مسند احمد، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ]

2. Isme Azam

Buraidah رضی اللہ عنہا se riwayat hai ke Allah ke Rasool ﷺ ne ek shakhs ko yun kehte suna:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ،
الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

(Aye Allah , mein is baat ki bunyaad par tujh se dua karta hoon ke mein is baat ki gawaahi deta hoon ke tu Allah (yaani haqeeqi ma'bood) hai. Tere siwa koi ibadat ke laiq nahin. Tu ahad hai samad hai jis ki koi aulad nahin aur na hi woh kisi ki aulad hai. Yeh sun kar Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya: tum ne Allah Ta'ala se us ke ek aise naam ke zariye us se dua ki ke jab is naam ke zariye us se kuch manga jaye to woh zaroor ataa karta hai aur us se dua ki jaye to woh zaroor qabool karta hai. [Musnad Ahmad , Abu-dawood, Tirmizi, Ibne Maajah]

۴. اللہ کو احد ماننے کا معنی و تقاضے

۱. اللہ اکیلا رب ہے

قال تعالى:

يَا صَاحِبِي السِّجْنِ

أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. [يوسف: ۳۹]

یوسف علیہ السلام نے جیل میں اپنے ساتھیوں کو دعوت دیتے ہوئے کہا تھا:

اے جیل کے ساتھیو، بہت سے الگ الگ معبود اچھے ہیں یا ایک اللہ جو ہر چیز پر غالب ہے۔ [سورۃ یوسف ۳۹]

4. Allah ko Ahad manne ka ma'ana wa takazey

1. Allah akela Rabb hai

Yusuf alaihissalam ne jail mein apne sathiyon ko dawat dete hue kaha tha:

Aye jail ke sathiyo, bahot se alag alag ma'bood achhey hain ya ek Allah jo har cheez par ghalib hai. [Surah Yusuf 39]

قال تعالى:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآَنِي تُؤْفَكُونَ. [فاطر: ۳]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اے لوگو، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا بھی اور کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق عطا فرماتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر تم کہاں سے جھوٹ میں پھنسائے جاتے

ہو۔ [سورۃ فاطر ۳]

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aye logo, apne upar Allah ki nemat ko yaad karo. Kya Allah ke siwa bhi aur koi khaaliq hai jo tumhe aasman wa zameen se rizq ataa farmata hai? Allah ke siwa koi bhi ibadat ke laiq nahin. Phir tum kahan se jhoot mein phansaye jate ho. [Surah Fatir 3]

۲. اللہ اکیلا معبود ہے

قال تعالى:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ

وَمَا مِنِ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ. [ص: ۶۵، ۶۶]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اے نبی، آپ کہہ دیجئے: میں تو بس ایک خبردار کرنے والا ہوں، اور اس ایک سب پر غالب اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں کا رب ہے۔ وہ بڑا زبردست ہے، بڑا مغفرت کرنے والا۔ [سورہ ص ۶۵-۶۶]

2. Allah akela ma'bood hai

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aye Nabi, aap keh dijiye: mein to bas ek khabardaar karne wala hoon, aur us ek sab par ghalib Allah ke siwa koi bhi ibadat ke laiq nahin. Woh aasmanon aur zameen aur un ke darmiyan tamam cheezon ka Rabb hai. Woh bada zabardast hai, bada maghfirat karne wala.

[Surah Saad 65-66]

۳. مشرکین کا ایک معبود پر تعجب

قال تعالى:

أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا

إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ. [ص: ۵]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

کیا اس نے (یعنی محمد ﷺ نے) سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا، یہ تو بہت ہی عجیب چیز ہے!

[سورہ ص ۵]

3. Mushrikeen ka ek ma'bood per ta'ajjub

Allah Ta'ala ne farmaya:

Kya us ne (yaani Mohammad ﷺ ne) saare ma'boodon ka ek hi ma'bood kardiya, yeh to bahot hi ajeeb cheez hai! [Surah Saad 5]

۴. مشرکین کا شرک تو سل

قال تعالى:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. [الزمر ۳]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے (وہ کہتے ہیں) ہم تو ان کی عبادت صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کچھ اور قریب کر دیں۔ یقین رکھو، جس اختلاف میں یہ لوگ پڑے ہیں اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ضرور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو، ناشکر ہو۔

[سورۃ الزمر ۵]

4. Mushrikeen ka shirke tawassul

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aur jin logon ne Allah ke siwa auron ko apna karsaaz banaa rakha hai (woh kehte hain) hum to un ki ibadat sirf isi liye karte hain ke yeh hamein Allah Ta'ala se kuch aur qareeb kar den. Yaqeen rakho, jis ikhtilaaf mein yeh log pade hain is ka faisla Allah Ta'ala zaroor kar dega. Allah Ta'ala us shakhs ko hidayat nahin deta jo jhoota ho, na shukra ho.

[Surah az-Zumar 5]

۵. ایک ہی معبود ہونے کی عقلی دلیل

قال تعالى:

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ. [الأنبياء: ۲۲]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اگر ان دونوں (یعنی آسمان و زمین) میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ان میں فساد ہو جاتا۔ پس اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ [الأنبياء ۲۲]

5. Ek hi ma'bood hone ki aqli daleel

Allah Ta'ala ne farmaya:

Agar un dono (yaani aasman wa zameen) mein Allah ke siwa aur ma'bood hote to un mein fasaad hojata. Pas Allah Ta'ala un tamam baton se pak hai jo yeh log us ki taraf mansoob kar rahe hain. [Surah al-Ambiya 22]

قال تعالى:

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ

إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ، عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. [المؤمنون ۹۱ - ۹۲]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر الگ چلا جاتا اور ہر دوسرے پر چڑھائی کر دیتا۔ پس اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ وہ تو ہر کھلی اور چھپی تمام باتوں کا جاننے والا ہے، اس شرک سے بہت اونچا ہے جو اس کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ [سورة المؤمنون ۹۱-۹۲]

Allah Ta'ala ne farmaya:

Allah Ta'ala ne kisi ko apna beta nahin banaya hai aur na hi us ke sath aur koi ma'bood hai. Agar aisa hota to har ma'bood apni makhlooq ko le kar alag chala jata aur har dusre par chadhai kar deta. Pas Allah Ta'ala un tamam baton se pak hai jo yeh log us ki taraf mansoob kar rahe hain. Woh to har khuli aur chhupi tamam baton ka jan-ne wala hai, us shirk se bahot uncha hai jo us ke sath yeh log kar rahe hain.

۶. اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو بھی عرش والے کی طرف رجوع کرتے

قال تعالى:

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ

إِذَا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا. [الإسراء: ۴۲، ۴۳]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

آپ فرمادیجیے: اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کئی معبود ہوتے تو بھی وہ سب اس عرش والے (یعنی اللہ) کی طرف ہی راہ پانے کی کوشش کرتے۔ جو (شرکیہ) باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں وہ ان تمام باتوں سے پاک اور بہت ہی

اونچا ہے۔ [سورۃ الاسراء ۴۲-۴۳]

6. Agar ek se ziyada ma'bood hote to bhi arsh wale ki taraf rujoo karte

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aap farma dejiye: agar Allah Ta'ala ke sath kayi ma'bood hote to bhi woh sab us arsh wale (yaani Allah) ki taraf hi raah paane ki koshish karte. Jo (shirkiya) bataain yeh log kar rahe hain woh un tamam baton se paak aur bahot hi uncha hai. [Surah al-Isra 42-43]

۷. دو معبود کا عقیدہ باطل ہے

قال تعالى:

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ

إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. [النحل: ٥١]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، دو دو معبود نہ بنا لو، معبود تو بس ایک ہی ہے، پس تم مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔

[سورۃ النحل ۵۱]

7. Do ma'bood ka aqeedah baatil hai

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aur Allah Ta'ala ka farmaan hai, do do ma'bood na banaa lo, ma'bood to bas ek hi hai, pas tum mujh hi se darte raho. [Surah an-Nahal 51]

۸. تثلیث کا عقیدہ باطل ہے

قال تعالى:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا

إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثَةٌ

وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ

وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ

لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. [المائدة: ۷۳]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

یقیناً ان لوگوں نے کفر کر دیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے حالانکہ اس ایک معبود کے سوا اور کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اور اگر یہ لوگ اس بات سے نہیں رکے جو یہ کہہ رہے ہیں تو یقیناً ان کفر کرنے والوں کو ایک دردناک عذاب لپٹ جائے گا۔ [سورۃ المائدہ ۷۳]

8. Taslees ka aqeedah baatil hai

Allah Ta'ala ne farmaya:

Yaqeenan un logon ne kufr kar diya jinhon ne kaha ke Allah teen mein ka teesra hai halanke is ek ma'bood ke siwa aur koi ma'bood hai hi nahin. Aur agar yeh log is baat se nahin ruke jo yeh keh rahe hain to yaqeenan in kufr karne walon ko ek dard naak azaab lapat jaye ga.

[Surah al-Maaidah 73]

۹. مسیح کی الوہیت و حلول کا انکار

قال تعالى:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ
قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. [المائدة: ١٧]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

یقیناً وہ لوگ کفر کر بیٹھے جنہوں نے کہا کہ اللہ تو مسیح بن مریم ہی ہے۔ آپ فرمادیجیے: اگر اللہ مسیح بن مریم کو، ان کی ماں کو اور زمین میں موجود تمام لوگوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے تو پھر اللہ سے انہیں کون بچا سکتا ہے۔ اور آسمان و زمین اور ان کے درمیان ساری بادشاہت اللہ ہی کی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ [سورۃ المائدہ ۱۷]

9. Maseeh ki uloohiyat wa hulul ka inkaar

Allah Ta'ala ne farmaya:

Yaqeenan woh log kufir kar baithe jinhon ne kaha ke Allah to Maseeh bin Maryam hi hai. Aap farma dejiye: agar Allah Maseeh bin Maryam ko, un ki maa ko aur zameen mein maujood tamam logon ko halaak karne ka irada karle to phir Allah se inhen kon bacha sakta hai. Aur aasman o zameen aur un ke dermiyan sari badshahat Allah hi ki hai, woh jo chahta hai paida kar deta hai aur woh har cheez par qadir hai.

[Surah al-Maaida 17]

۱۰. شرک سے براءت اقرار توحید کا تقاضا ہے

قال تعالى:

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً
قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ
وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ
أَنْتُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى
قُلْ لَا أَشْهَدُ، قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ
وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ. [الأنعام: ۱۹]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

آپ فرمادیتے ہیں: گواہی کیلئے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ آپ کہیں: میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں خبردار کر دوں، اور اسے بھی جس تک یہ قرآن پہنچے۔ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں۔ آپ فرمادیتے ہیں: میں یہ گواہی نہیں دیتا۔ کہہ دیجیے: وہ تو بس ایک ہی معبود ہے اور جو شرک تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں۔

[سورۃ الانعام ۱۹]

10. Shirk se bara'at iqrare tauheed ka taqaza hai

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aap farma dejiye: gawaahi ke liye sab se badi cheez kya hai? Aap kahiye: mere aur tumahre darmiyan Allah hi gawah kaafi hai. Aur yeh quran meri taraf wahi kiya gaya hai taake is ke zariye mein tumhe khabardaar kar doon, aur usey bhi jis tak yeh quran pahunche. Kya tum yeh gawahi dete ho ke Allah ke sath aur bhi ma'bood hain. Aap farma dejiye: mein yeh gawahi nahin deta. Keh dejiye: woh to bas ek hi ma'bood hai aur jo shirk tum kar rahe ho mein us se baree hon.

[Surah al-An'aam 19]

﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾

۱. الصمد کا معنی

۱. السَّيِّدُ

قال ابن جرير:

الصَّمَدُ عِنْدَ الْعَرَبِ:

هُوَ السَّيِّدُ الَّذِي يُصَمَّدُ إِلَيْهِ،

الَّذِي لَا أَحَدَ فَوْقَهُ، وَكَذَلِكَ تُسَمَّى أَشْرَافُهَا.

[تفسير الطبري ت شاكر (٦٩٢ / ٢٤)]

ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اہل عرب کے نزدیک الصمد سے مراد سردار ہے جس کی طرف مدد کیلئے رجوع کیا جاتا ہے، جس سے اوپر کوئی نہ ہو، عرب اپنے اشراف کو اسی طرح لقب دیتے ہیں۔ [تفسیر ابن جریر]

1. As-samad ka Ma'ana

1. As-Sayyid

Ibne Jareer Tabari رحمہ اللہ farmate hain:

Ahle arab ke nazdeek as-samad se murad sardar hai jis ki taraf madad ke liye rujoo kiya jata hai, jis se upar koi na ho, arab apne ashraaf ko isi tarh laqab dete hain. [Tafseer Ibne Jareer]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
الصَّمَدُ: السَّيِّدُ الَّذِي قَدْ انْتَهَى سُؤْدُدُهُ.
[ظلال الجنة للألباني (١ / ٢٩٩) رقم ٦٦٦]

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
الصمد اُسے کہتے ہیں جو اپنی سرداری میں انتہائی اعلیٰ مقام پر ہو۔ [السنة لابن ابي عاصم]

Abdullah bin masood رضی اللہ عنہ farmate hain:

As-samad usey kehte hain jo apni sardari mein intihai aala maqam par
ho. [Assunnah li ibne Abi Asim]

قال رضی اللہ عنہ:

السَّيِّدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.
(حم د) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ. [صحيح الجامع ٣٧٠٠] (صحيح)

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
حقیقی سید اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ [مسند احمد، ابوداؤد]

Allah ke Rasool صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya:

Haqeeqi sayyid Allah tabarak wa ta'ala hai.

[Musnad Ahmad, Abu-Dawood]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ،

فِي قَوْلِهِ: {الصَّمَدُ} يَقُولُ:

السَّيِّدُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي سُؤْدَدِهِ، وَالشَّرِيفُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي شَرَفِهِ،
وَالْعَظِيمُ الَّذِي قَدْ عَظُمَ فِي عَظَمَتِهِ، وَالْحَلِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي حِلْمِهِ،
وَالْغَنِيُّ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي غِنَاهُ، وَالْجَبَّارُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي جَبْرُوتِهِ،
وَالْعَالِمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي عِلْمِهِ، وَالْحَكِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي حِكْمَتِهِ،
وَهُوَ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي أَنْوَاعِ الشَّرَفِ وَالسُّؤْدَدِ،

وَهُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ هَذِهِ صِفَتُهُ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لَهُ. [تفسير الطبري ط هجر (٢٤ / ٧٣٦)]

ابن عباس ؓ اللہ تعالیٰ کے فرمان [الصمد] کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

وہ صمد ہے جو اپنی سرداری میں کامل ہے، وہ شرف والا ہے جو اپنے شرف میں کامل ہے، وہ عظیم ہے جو اپنی عظمت میں کامل ہے، وہ حلیم ہے جو اپنے حلم میں کامل ہے، وہ غنی ہے جو اپنی غنی میں کامل ہے، وہ جبار ہے جو اپنی جبروت میں کامل ہے، وہ عالم ہے جو اپنے علم میں کامل ہے، وہ حکیم ہے جو اپنی حکمت میں کامل ہے، وہ شرف اور سردار کی تمام انواع میں کامل ہے، وہ اللہ ہے، پاک ہے اور یہ اس کی صفات ہیں جو اس کے سوا کسی اور کیلئے لائق نہیں۔ [تفسیر طبری]

Ibne Abbas ؓ Allah Ta'ala ke farmaan [as-samad] ki tafseer mein farmate hain:

Woh samad hai jo apni sardari mein kaamil hai, woh sharf wala hai jo apne sharf mein kamil hai, woh azeem hai jo apni azmat mein kamil hai, woh haleem hai jo apne hilm mein kaamil hai, woh ghani hai jo apne ghina mein kamil hai, woh jabbar hai jo apni jabroot mein kaamil hai, woh aalim hai jo apne ilm mein kaamil hai, woh hakeem hai jo apni hikmat mein kaamil hai, woh sharf aur sardar ki tamam anwaa mein kaamil hai, woh Allah hai, pak hai aur yeh is ki sifaat hain jo is ke siwa kisi aur ke liye laiq nahin. [Tafseer-e-Tabari]

۲. مخلوق سے مستغنی

قال أبو هريرة:

إِنَّهُ الْمُسْتَغْنَى عَنْ كُلِّ أَحَدٍ،

وَالْمُحْتَاجُ إِلَيْهِ كُلُّ أَحَدٍ. [تفسير القرطبي ۲۰ / ۲۴۵]

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

وہ ہر کسی سے مستغنی ہے، اور ہر ایک اس کا محتاج ہے۔ [تفسیر قرطبی]

2. Makhloq se mustaghni

Abu-Hurairah رضی اللہ عنہ farmate hain:

Woh har kisi se mustaghni hai, aur har ek us ka mohtaaj hai.

[Tafseer Qurtubi]

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

الصَّمَدُ: الَّذِي لَا جَوْفَ لَهُ.

[ظلال الجنة للألباني (۱) / ۳۰۰]

مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

الصمد وہ ہے جس کا پیٹ نہ ہو۔ [السنة لابن أبي عاصم]

Mujahid رضی اللہ عنہ farmate hain:

As-samad woh hai jis ka pet na ho. [Assunnah li ibne Abi Asim]

عن الشعبي قال:

الصَّمَدُ: الَّذِي لَا يَأْكُلُ الطَّعَامَ.

[ظلال الجنة للألباني (١/ ٣٠٢) رقم ٦٨٢]

شعبي ﷺ فرماتے ہیں:

الصمد وہ ہے جو کھانا نہیں کھاتا۔ [السنة لابن عاصم]

Shoabi ﷺ farmate hain:

As-samad woh hai jo khana nahin khata. [Assunnah li ibne Abi Asim]

قال تعالى:

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ اتَّخَذُ وَلِيًّا

فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. [الأنعام ١٤]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

آپ فرمادیجیے: کیا میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا کار ساز بنا لوں؟ (وہ اللہ) جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ جو کھلاتا ہے لیکن کھلایا نہیں جاتا؟ آپ کہہ دیجیے: مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلا فرمانبردار بن جاؤں اور آپ ہر گز بھی مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ [سورۃ الانعام ۱۶]

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aap ferma deejie: kya mein Allah ko chhod kar dusron ko apna karsaz bana loon? (woh Allah) jo aasmanon aur zameen ka paida karne wala hai? Jo khilata hai lekin khilaya nahin jata? Aap keh deejie: mujhe to yahi hukm mila hai ke mein sab se pehla farmanbardar ban jaon aur aap hargiz bhi mushrikeen mein se na hojana. [Surah al-An'aam 16]

قال تعالى:

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ
انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. [المائدة: ٧٥، ٧٦]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مسیح بن مریم تو بس اللہ کے ایک رسول ہیں۔ ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک پاکباز خاتون تھیں۔ دونوں (ماں بیٹے) کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو، ہم کس طرح ان کیلئے نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر یہ بھی دیکھو کہ وہ کہاں سے جھوٹ میں مبتلا کیے جا رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجیے: کیا میں اللہ کی بجائے ایسوں کی عبادت کروں جو تمہارے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں۔ اور اللہ تو (سب کچھ) سننے والا، جاننے والا ہے۔

[سورۃ المائدہ ۷۵-۷۶]

Allah Ta'ala ne farmaya:

Maseeh bin maryam to bas Allah ke ek Rasool hain. Un se pehle bhi kayi Rasool guzar chuke hain. Un ki walida ek pakbaaz khatoon theen. Dono (maa bete) khana khate thhey. Dekho, hum kis tarh un ke liye nishaniya wazeh karte hain, phir yeh bhi dekho ke woh kahan se jhoot mein mubtala kiye ja rahe hain. Aap keh deejiye: kya mein Allah ki bajaye aison ki ibadat karoon jo tumhare nafa nuqsan ke maalik hi nahin. Aur Allah to (sab kuch) sunne wala, janne wala hai. [Surah al-Maaida 75-76]

عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ:

الصَّمَدُ الْبَاقِي بَعْدَ خَلْقِهِ
وَهُوَ قَوْلُ قِتَادَةَ.

[ظلال الجنة للألباني (١/ ٣٠١)] (صحيح مقطوع)

حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

الصمد وہ ہے جو اپنی مخلوق کے بعد بھی باقی رہے، یہی قول قتادہ کا بھی ہے۔ [السنة لابن ابی عاصم]

Hasan basri رحمہ اللہ farmate hain:

As-samad woh hai jo apni makhlooq ke baad bhi baqi rahe, yahi qaul
Qatada ka bhi hai. [As-Sunnah li-Ibne Abi Aasim]

۳. مخلوق اس کی محتاج

عن إبراهيم النخعي قال:

الصَّمَدُ الَّذِي يَصْمَدُ إِلَيْهِ النَّاسُ حَوَائِجُهُمْ.^(١)

[ظلال الجنة للألباني (١/ ٣٠٣) رقم ٦٨٧] (إسناده جيد مقطوع)

ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

الصمد وہ ہے جس کی طرف لوگ اپنی حاجات میں رجوع کرتے ہیں۔ [السنة لابن ابی عاصم]

3. Makhlooq uski mohtaj

Ibrahim Nakhai رحمہ اللہ farmate hain:

As-samad woh hai jis ki taraf log apni haajat mein rujoo karte hain.

[As-Sunnah li-Ibne Abi Aasim]

^١ قال ابن عباس:

[الصَّمَدُ] الَّذِي يَصْمَدُ إِلَيْهِ الْخَلَائِقُ فِي حَوَائِجِهِمْ وَمَسَائِلِهِمْ. [تفسير ابن كثير]

قال الله تعالى:

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي
وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّمًا بَيْنَكُمْ فَلَا تظَالَمُوا
يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ
يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ
يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسِكُمْ
يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخَطُّونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَأَنَا أَعْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَعْفِرْ لَكُمْ
يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا صُرِّي فَتَضُرُّونَ وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي
يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ
كَانُوا عَلَى أَنْفِي قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا
يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ
كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا
يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ
قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ
مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ
يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أَوْفِيكُمْ بِهَا
فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

[م: الأبرّ والصّلة والأداب: ٤٦٧٤]

ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے روایت بیان کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، اور تم پر بھی آپس میں ظلم کرنا حرام قرار دیا ہے،
لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔
اے میرے بندو، تم سب ہدایت سے محروم ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، تم مجھ سے ہدایت مانگو،
میں ضرور تمہیں ہدایت دوں گا۔
اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، لہذا تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں
کھلاؤں گا۔
اے میرے بندو، تم سب لباس سے محروم ہو، سوائے اس کے جسے میں لباس عطا کروں۔ تم مجھ سے لباس
مانگو، میں ضرور تمہیں لباس عطا کروں گا۔

اے میرے بندو، تم رات دن غلطیاں کرتے ہو، اور میں غلطیوں کو معاف کرنے والا ہوں، تم مجھ سے مغفرت مانگو، میں ضرور تمہاری مغفرت کرونگا۔
 اے میرے بندو، تم سب مل کر بھی میرا کچھ نقصان نہیں کر سکتے اور نہ ہی تم سب مل کر مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہو۔

اے میرے بندو، تم سب کے سب، اولین سے آخرین تک، جنّات بھی اور انسان بھی، سب سے متقی شخص کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا۔
 اے میرے بندو، اگر تم سب، اولین سے آخرین تک، جنّات اور انسان کسی بدترین گنہگار شخص کے دل کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہت میں اس سے کوئی بھی کمی نہ ہوگی۔

اے میرے بندو، تم سب کے سب، جنّات اور انسان، جمع ہو کر ایک ساتھ مجھ سے مانگیں اور میں انہیں ان کی مانگی ہوئی چیز دے بھی دوں تو اس سے میرے پاس جو کچھ ہے اس میں اتنی کمی بھی نہ ہوگی جتنی کمی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس سمندر میں ہوتی ہے۔

اے میرے بندو، یہ تو بس تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے محفوظ کر کے رکھ رہا ہوں پھر (ان کا بدلہ) پوری طرح تمہیں عطا کرونگا۔ لہذا جس کو بھلائی (یعنی انعام) ملے وہ الہ ہی کی حمد کرے اور جسے برائی (یعنی سزا) ملے وہ خود اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ [مسلم]

Abuzar Ghifari ؓ Nabi ﷺ Se riwayat karte hain ke khud Allah ke Nabi ﷺ ne Allah se riwayat bayan ki, Allah Ta'ala farmata hai:

Aye mere bando, mein ne zulm ko apne upar haraam kar liya hai, aur tum par bhi aapas mein zulm karna haraam qarar diya hai, lehaza tum ek dusre par zulm na karo.

Aye mere bando, tum sab hidayat se mahroom ho siwaye us ke jise mein hidayat dun, tum mujh se hidayat mango, mein zaroor tumhe hidayat doonga.

Aye mere bando, tum sab bhuke ho siwaye us ke jise mein khilaun, lehaza tum mujh se khana mango mein tumhe khilaun ga.

Aye mere bando, tum sab libaas se mahroom ho, siwaye us ke jise mein libaas ataa karoon. Tum mujh se libaas mango, mein zaroor tumhe libaas ataa karunga.

Aye mere bando, tum raat din ghalatiyan karte ho, aur mein ghaltion ko maaf karne waala hoon, tum mujh se maghfirat mango, mein zaroor tumhaarii maghfirat karunga.

Aye mere bando, tum sab mil kar bhi mera kuch nuqsan nahin kar satke aur na hi tum sab mil kar mujhe faida pahuncha sakte ho.

Aye mere bando, tum sab ke sab, awwaleen se aakhireen tak, jinnat bhi aur insaan bhi, sab se mut-taqi shakhs ke dil ki tarh ho jaaen to is se meri badshahat mein kuch bhi izafa nahin hoga.

Aye mere bando, agar tum sab, awwaleen se aakhireen tak, jinnat aur insaan kisi badtareen gunehgar shakhs ke dil ki tarh ho jaaen to meri badshahat mein is se koi bhi kami na hogi.

Aye mere bando, tum sab ke sab, jinnat aur insaan, jamaa ho kar ek sath mujh se mange aur mein inhen un ki mangi hui cheez de bhi dun to is se mere paas jo kuch hai us mein itni kami bhi na hogi jitni kami samandar mein sui dubone se us samandar mein hoti hai.

Aye mere bando, yeh to bas tumare hi aamaal hain jinhein mein tumare liye mehfooz karke rakh raha hoon phir (un ka badla) poori tarh tumhe ataa karunga. Lehaza jis ko bhalai (yaani inaaam) mile woh ilah hi ki hamd kare aur jise buraiee (yaani saza) mile woh khud apne aap hi ko malaamat kare. *[Mslim]*

۴. اللہ کی بڑائی عرب بھی تسلیم کرتے تھے

قال تعالى:

قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ.
قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ. [المؤمنون ۸۴ - ۹۰]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

آپ کہہ دیجیے: زمین اور اس میں موجود سب کچھ کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو (تو بتاؤ؟) وہ ضرور کہیں گے: اللہ کا۔ آپ کہیے: پھر تم نصیحت کیوں نہیں مانتے؟ آپ (ان سے) پوچھیے: آسمانوں اور زمین کا رب اور عرشِ عظیم کا رب کون ہے؟ وہ یہی کہیں گے: اللہ۔ آپ کہیے: تو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ آپ پوچھیے: کون ہے جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی بادشاہت ہے، جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اگر تم جانتے ہو (تو بتاؤ؟) وہ کہیں گے: اللہ۔ آپ کہیے: پھر کہاں سے تم پر جادو کیا جا رہا ہے؟

[سورۃ المؤمنون ۸۴-۹۰]

4. Allah ki bada'ee arab bhi tasleem karte they

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aap keh deejiye: zameen aur is mein maujood sab kuch kis ka hai? Agar tum jante ho (to batao?) Woh zaroor kahege: Allah ka. Aap kahiye: phir tum nasihat kyun nahin mante? Aap (un se) poochiye: aasmanon aur zameen ka Rabb aur arshe azeem ka Rabb kon hai? Woh yahi kahege: Allah. Aap kahiye: to phir tum darte kyun nahin? Aap poochiye: kon hai jis ke haath mein tamaam cheezon ki badshaahat hai, jo panah deta hai aur is ke muqable mein koi panah nahin de sakta. Agar tum jante ho (to batao?) Woh kahenge: Allah. Aap kahiye: phir kahan se tum par jadu kiya ja raha hai? [Surah al-Mominoon 84-90]

۵. عربوں کا شرک

قال تعالى:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. [الزمر ۳]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا رکھے ہیں (ان کا کہنا ہے کہ) ہم تو بس انہیں اس لیے پوجتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کر دیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ فیصلہ کر کے رہے گا اس اختلاف کا جس میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو راہ نہیں سجاتا جو نہایت ہی جھوٹا اور ناشکرا ہو۔ [سورۃ الزمر ۳]

5. Arbon ka shirk

Allah Ta'ala ne farmaya:

Jin logon ne Allah ke siwa aur karsaaz bana rakhe hain (un ka kehna hai ke) hum to bas inhen is liye pujte hain ke woh hamein Allah se kuch aur qareeb kar den. Yaqeenan Allah Ta'ala faisla karke rahe ga is ikhtilaaf ka jis mein woh pade hue hain. Allah Ta'ala kisi aise shakhs ko raah nahin sujhata jo nihayat hi jhoota aur nashukara ho. [Surah az-Zumar 3]

﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾

۱. یہود و نصاریٰ کا رد

قال القرطبي:

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:

لَمْ يَلِدْ كَمَا وَلَدَتْ مَرْيَمُ

وَلَمْ يُولَدْ كَمَا وَلَدَ عِيسَى وَعَزَيْرٌ.

وَهُوَ رَدُّ عَلَى النَّصَارَى، وَعَلَى مَنْ قَالَ: عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ.

[تفسیر القرطبي (۲۰ / ۲۴۶)]

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنم نہیں دیا جیسا کہ حضرت مریم نے (عیسیٰ علیہ السلام کو) جنم دیا؟ نہ ہی وہ پیدا ہوا ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ اور عزیر علیہما السلام پیدا ہوئے۔ پس یہ نصاریٰ پر رد ہے اور ان لوگوں پر بھی جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ [تفسیر قرطبی]

1. Yahood wa Nasara ka radd

Imam Qurtubi رحمہ اللہ farmate hain:

Ibne Abbas رضی اللہ عنہما ka qaul hai ke Allah Ta'ala ne kisi ko janam nahin diya jaisa ke hazrat maryam ne (Isa رضی اللہ عنہ ko) janam diya? Na hi woh paida huwa hai jaisa ke hazrat Isa aur Uzair alaihi massalam paida hue. Pas yeh nasara par radd hai aur un logon par bhi jo uzair alaihissalam ko Allah ka beta qarar dete hain.

[Tafseer Qurtubi]

۱. عزیز و مسیح کو اللہ کا بیٹا قرار دینا

قال تعالى:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ
وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ
ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ
يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ
قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ. [التوبة: ۳۰]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اور یہود کہتے ہیں: عزیز اللہ کے بیٹے ہیں! اور نصاریٰ کہتے ہیں: مسیح اللہ کے بیٹے ہیں! بس یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں! یہ اپنے سے پہلے کفر کرنے والوں کے قول کی مشابہت کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں سے جھوٹ میں پھنسائے جا رہے ہیں۔ [سورۃ التوبہ ۳۰]

1. Uzair wa Maseeh ko Allah ka beta qaraar dena

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aur yahood kehte hain: Uzair Allah ke bete hain! Aur nasara kehte hain: maseeh Allah ke bete hain! Bas yeh un ke muh ki baate hain! Yeh apne se pehle kufr karne walon ke qaul ki mushaabahat kar rahe hain. Allah inhen halaak kare, yeh kahan se jhoot mein phansaye ja rahe hain.

[Surah at-Taubah 30]

۲. یہود و نصاریٰ کا خود کو اللہ کی اولاد قرار دینا

قال تعالى:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ

قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ

بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ، يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. [المائدة: ۱۸]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

یہود و نصاریٰ کہتے ہیں: ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ آپ کہیے: پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ بلکہ (بات یہ ہے کہ) تم اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں سے محض ایک بشر ہو، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ [سورۃ المائدہ ۱۸]

2. Yahood wa Nasara ka khud ko Allah ki aulaad qaraar dena

Allah Ta'ala ne farmaya:

Yahood wa Nasara kehte hain: hum Allah ke bete aur uske chaheete hain. Aap kahiye: phir Allah tumhe azaab kyun deta hai? Balke (baat yeh hai ke) tum Allah ki paida ki hui makhloq mein se mahez ek bashar ho, woh jise chahta hai bakhash deta hai aur jise chahta hai azaab deta hai. Aur aasmanon aur zameen mein un ke darmiyan maujood tamaam cheezon ki badshaahat Allah hi ki hai aur sab ko usi ki taraf lout kar jana hai.

[Surah al-Ma'ida 18]

۲. مشرکین کا اللہ کی بیٹیاں قرار دینے پر رد

قال تعالى:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ
وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ ^(۱) بِغَيْرِ عِلْمٍ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ. [الأنعام ۱۰۰]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اور انہوں نے (جنوں) کو اللہ کا شریک بنا دیا جبکہ اللہ ہی نے انہیں پیدا کیا ہے، اور (اتنا ہی نہیں بلکہ) اس کے لیے بغیر کسی علم کے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں۔ پاک ہے وہ ان تمام باتوں سے جو وہ اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ [سورۃ الانعام ۱۰۰]

2. Mushrikeen ka Allah ki betiyan qaarar dene par radd

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aur unhon ne (jino) ko Allah ka shareek bana diya jabke Allah hi ne unhen paida kiya hai, aur (itna hi nahin balke) is ke liye baghair kisi ilm ke bete aur betiyan ghad lin. Pak hai woh un tamaam baton se jo woh is ki taraf mansoob kar rahe hain. [Surah al-An'aam 100]

۱ ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَّتُوهَا أَنثُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ
إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ﴾ [النجم: ۱۹ - ۲۳]

قال تعالى:

فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ
أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ

أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إَفْكِهَمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. [الصافات: ١٤٩ - ١٥٢]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

آپ ذرا ان سے پوچھیے تو سہی: کیا آپ کے رب کیلئے بیٹیاں ہیں اور ان کیلئے بیٹے؟ اور کیا ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا ہے کہ وہ اس کے گواہ ہیں۔ خبردار یہ لوگ محض ایک گھڑا ہوا جھوٹ بک رہے ہیں کہ اللہ سے بھی اولاد پیدا ہوتی ہے! یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ [سورة الصافات ۱۴۹-۱۵۲]

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aap zara un se poochiye to sahi: kya aap ke Rabb ke liye betiyan hain aur un ke liye bete? Aur kya hum ne farishton ko mu'annas paida kiya hai ke woh is ke gawah hain. Khabardaar yeh log mahez ek ghada huwa jhoot bak rahe hain ke Allah se bhi aulaad paida hoti hai! Yaqeenan yeh log jhute hain. [Surah as-Saffat 149-152]

قال تعالى:

أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ
وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا
إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا. [الإسراء: ٤٠]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

کیا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیٹوں کو چننا اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ تم یقیناً بہت ہی سنگین بات کہہ رہے ہو۔ [سورۃ الاسراء: ۴۰]

Allah Ta'ala ne farmaya:

Kya yun hai ke Allah Ta'ala ne tumahre liye beton ko chuna aur apne liye farishton ko betiyan bana liya? Tum yaqeenan bahot hi sangeen baat keh rahe ho. [Surah al-Isra 40]

۳. اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ کیوں غلط ہے؟

۱. اللہ تعالیٰ اولاد، شریک اور مددگار سے پاک ہے

قال تعالى:

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبَّرَهُ تَكْبِيرًا. [الإسراء: ۱۱۱]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اور آپ کہہ دیجیے: تمام تعریف اللہ ہی کیلئے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا ہے، اور نہ ہی اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ ہی کمزوری کے سبب وہ کسی مددگار کا محتاج ہے۔ پس تم اس کی بڑائی بیان کرتے رہو۔ [سورۃ الاسراء: ۱۱۱]

3. Allah ke liye aulad ka aqeedah kyun ghalat hai?

1. Allah Ta'ala aulad, shareek aur madadgaar se pak hai

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aur aap keh deejie: tamaam tareef Allah hi ke liye hai jis ne kisi ko apna beta nahin banaya hai, aur na hi us ki saltanat mein koi us ka shareek hai, aur na hi kamzori ke sabab woh kisi madadgaar ka mohtaaj hai. Pas tum us ki badaee bayan karte raho. [Surah al-Isra 111]

۲. اللہ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ جاہل و جھوٹ پر مبنی ہے

قال تعالى:

وَيُنذِرَ الَّذِينَ

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ

إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. [الكهف ۴-۵]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اور ان لوگوں کو خبردار کر دیجئے جو کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ انہیں ذرا بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کچھ جانتے تھے۔ بہت سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ یہ تو بس ایک جھوٹ بات کہہ رہے ہیں۔ [سورۃ الکہف ۴-۵]

2. Allah ka beta hone ka aqeedah jahl wa jhoot par mabni hai

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aur un logon ko khabardaar kardejiye jo kehte hain: Allah Ta'ala ne beta banaliya hai. Inhen zara bhi ilm nahin aur na un ke baap dada hi kuch jante thhey. bahot sangeen baat hai jo un ke muh se nikal rahi hai. Yeh to bas ek jhoot baat keh rahe hain. [Surah al-Kahaf 4-5]

۳. جب اس کی بیوی نہیں تو اولاد کیسے ہو سکتی ہے

قال تعالى:

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
أَنِّي يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. [الأنعام ۱۰۱]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وہ آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے اولاد کیسے ہوگی جبکہ اس کے بیوی ہی نہیں۔ وہ
تو ساری چیزوں کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ [سورۃ الانعام ۱۰۱]

3. Jab us ki biwi nahin to aulad kaise ho sakti hai

Allah Ta'ala ne farmaya:

Woh asmano aur zameen ka naye-sire se paida karne wala hai. Us ke
aulad kaise hogi jabke us ke biwi hi nahin. Woh to saari cheezon ka
khaaliq hai aur woh har cheez ka jan-ne wala hai.

[Surah al-An'aam 101]

۴. اولاد اللہ کی شان کے لائق نہیں تمام مخلوق اللہ کے بندے ہیں

قال تعالى:

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا
تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَنْفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا
أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا
إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا
لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. [مریم: ۸۸ - ۹۵]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اور ان لوگوں نے کہا کہ رحمن نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ بلکہ تم تو ایک بہت ہی گھناؤنی بات لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے۔ اور پہاڑ گر پڑیں۔ اس بات پر کہ تم اللہ کے اولاد قرار دینے لگو۔ (حقیقت یہ ہے کہ) رحمن کی شان کے لائق ہی نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ آسمانوں اور زمین میں موجود تمام ہی اس کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوتے ہیں۔ اس نے انہیں اچھی طرح محفوظ کر لیا ہے اور گن رکھا ہے۔ اور قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک تنہا ہی آنے والے ہیں۔ [سورۃ مریم ۸۸-۹۵]

4. Aulad Allah ki shaan ke laiq nahin tamam makhloq Allah ke bande hain

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aur un logon ne kaha ke rehman ne kisi ko apna beta bana liya hai. Balke tum to ek bahot hi ghinoni baat laaye ho. Qareeb hai ke aasman phatt pade aur zameen shaqq hojaye. Aur pahad gir pade. Is baat par ke tum Allah ke aulad qarar dene lago. (haqeeqat yeh hai ke) rehman ki shaan ke laiq hi nahin ke woh kisi ko apna beta banaye. Asmano aur zameen mein maujood tamam hi us ke huzoor bande ho kar haazir hote hain. Us ne unhen achhi tarh mehfooz karliya hai aur gin rakha hai. Aur qayamat ke din un mein se har ek tanha hi aane wale hain.

[Surah Maryam 88-95]

۵. اللہ نے کسی کو اپنی اولاد بنایا بھی نہیں

قال تعالى:

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا. [الفرقان: ۲]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وہ (اللہ) جس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین کی ہے اور جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا ہے، اور نہ ہی اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہے۔ اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا تو اس کی تقدیر بھی مقدر کر دی۔

[سورۃ الفرقان ۲]

5. Allah ne kisi ko apni aulad banaya bhi nahin

Allah Ta'ala ne farmaya:

Woh (allah) jis ki badshaahat asmano aur zameen ki hai aur jis ne kisi ko apna beta nahin banaya hai, aur na hi us ki badshahat mein koi us ka shareek hai. Usi ne har cheez ko paida kiya to us ki taqdeer bhi muqaddar kar di. [Surah al-Furqan 2]

۶. اللہ کو وارث کی ضرورت نہیں

دعاء زکریا :

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي
وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا
يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. [مریم: ۵، ۶]

زکریا علیہ السلام نے اپنی دعا میں کہا تھا:

اور مجھے اپنے بعد اپنے گھر والوں کے بارے میں اندیشہ ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے تو (اے میرے رب) مجھے تو اپنی طرف سے ایک وارث عطا فرما دے، جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے اور اے میرے رب، اسے ایسا بنا کہ تو اس سے راضی ہو۔ [سورۃ مریم ۵-۶]

6. Allah ko waris ki zaroorat nahin

Zakariya alaihissalam ne apni dua mein kaha tha:

Aur mujhe apne baad apne ghar walon ke bare mein andesha hai aur meri biwi bhi banjh hai to (Aye mere Rabb) mujhe tu apni taraf se ek waris ataa farma de, jo mera aur aale yaqoob ka waris bane aur Aye mere rab, usey aisa bana ke tu us se razi ho. [Surah Maryam 5-6]

قال تعالى:

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. ^(۱) [الحجر: ۲۳]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اور ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں! [سورۃ الحجر ۲۳]

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aur hum hi zindah karte hain aur hum hi maut dete hain aur hum hi waris hain! [Surah al-Hajar 23]

۱ قال تعالى: إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. [مریم: ۴۰]

۷. اس کے حکم سے مخلوق پیدا ہوتی ہے اسے تولید کی ضرورت نہیں

قال تعالى:

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ

بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. [البقرة: ۱۱۶، ۱۱۷]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اور وہ کہتے ہیں: ”اللہ نے اپنے لیے اولاد بنالی ہے“ اللہ پاک ہے اس چیز سے! بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے سب اسی کا ہے، سب کے سب اسی کے فرمانبردار ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا عدم سے وجود میں لانے والا ہے، وہ جب کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے: ہو جا! پس وہ ہو جاتا ہے۔ [سورۃ البقرہ ۱۱۶-۱۱۷]

7. Us ke hukm se makhlooq paida hoti hai usey tauleed ki zaroorat nahin

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aur woh kehte hain: “Allah ne apne liye aulad bana li hai” Allah pak hai us cheez se! Balke asmano aur zameen mein jo bhi hai sab usi ka hai, sab ke sab usi ke farmanbardar hain. Woh asmano aur zameen ka adm se wajood mein laane wala hai, woh jab kisi muamle ka faisla karta hai to keh deta hai: hoja! Pas woh hojata hai. [Surah al-Baqarah 116-117]

۴. عیسیٰ کے اللہ کا بیٹا نہ ہونے کی دلیل

۱. اللہ کے حکم ﴿كُنْ﴾ سے پیدا ہونا

قال تعالى:

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ
خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. [آل عمران: ۵۹، ۶۰]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا پھر کہا: ہو جا! تو وہ ہو گئے۔
یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، پس آپ ہرگز بھی شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔

[سورہ آل عمران ۵۹-۶۰]

4. Eesa alaihissalam ke Allah ka beta na hone ki daleel

1. Allah ke hukm [kun] se paida hona

Allah Ta'ala ne farmaya:

Eesa ki misaal Allah ke nazdeek aadam ki tarh hai, Allah Ta'ala ne unhen mitti se paida kiya phir kaha: hoja! To woh hogaye. Yeh aap ke Rabb ki taraf se haq hai, pas aap hargiz bhi shak karne walon mein se na hon.

[Surah Aal-e-Imran 59-60]

۲. کھانے پینے کے محتاج ہونا

قال تعالى:

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ
وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ
انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ
قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا
وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. [المائدة: ۷۵، ۷۶]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مسیح بن مریم تو بس اللہ کے ایک رسول ہیں۔ ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک پاکباز خاتون تھیں۔ دونوں (ماں بیٹے) کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو، ہم کس طرح ان کیلئے نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر یہ بھی دیکھو کہ وہ کہاں سے جھوٹ میں مبتلا کیے جا رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجیے: کیا میں اللہ کی بجائے ایسوں کی عبادت کروں جو تمہارے نفع و نقصان کے مالک ہی نہیں۔ اور اللہ تو (سب کچھ) سننے والا، جاننے والا ہے۔

[سورۃ المائدہ ۷۵-۷۶]

2. Khane peene ke mohtaaj hona

Allah Ta'ala ne farmaya:

Maseeh bin Maryam to bas Allah ke ek Rasool hain. Un se pehle bhi kayi Rasool guzar chuke hain. Un ki walida ek pakbaaz khatoon theen. Dono (maa bete) khana khate thhey. Dekho, hum kis tarh un ke liye nishaniyan wazeh karte hain, phir yeh bhi dekho ke woh kahan se jhoot mein mubtala kiye ja rahe hain. Aap keh deejiye: kya mein Allah ki bajaye aison ki ibadat karoon jo tumhaare nafa wa nuqsaan ke maalik hi nahin. Aur Allah to (sab kuch) sunne wala, janne wala hai. [Surah al-Maida 75-76]

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

قال عبد الرحمن بن ناصر السعدي:

{وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ}

لا في أسمائه ولا في أوصافه، ولا في أفعاله، تبارك وتعالى.

[تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص: ٩٣٧)]

شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ﷺ فرماتے ہیں:

[وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ] (کوئی اس کی برابری کا نہیں) نہ اس کے اسماء میں، نہ اس کے اوصاف میں اور نہ ہی اس

کے افعال میں، وہ بڑی برکتوں والا ہے، سب سے اونچا ہے۔ [تفسیر سعدي]

Shaykh Abdurrahman bin Nasir As-Saadi ﷺ farmate hain:

(koi us ki barabari ka nahin) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Na us ke asma mein, na us ke awsaf mein aur na hi us ke af'aal mein,
woh badi barkaton wala hai, sab se uncha hai.

[Tafseer Saadi]

۱. اللہ کا کوئی ند نہیں

قال تعالى:

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. [البقرة: ٢٢]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

پس تم اللہ کیلئے ہمسر نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ [سورۃ البقرہ ۲۲]

1. Allah ka koi *nidd* nahin

Allah Ta'ala ne farmaya:

Pas tum Allah ke liye humsar na banaao jabke tum jante ho.

[Surah al-Baqarah 22]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ
قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ.
[خ: تفسير القرآن ٤٤٧٧ - م: الإيمان ١٤١ - (٨٦)]

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:
فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ
کہ تو کسی کو اللہ کے برابر کر دے جبکہ تجھ کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ [بخاری و مسلم]

Abdullah bin Mas'ood رضی اللہ عنہ se riwayat hai:

Farmate hain mein ne Allah ke Rasool صلی اللہ علیہ وسلم Se poocha: Allah ke nazdeek
sab se bada gunah kya hai? Aap ne farmaya: yeh ke tu kisi ko Allah ke
barabar karde jabke tujh ko paida karne wala Allah hai.

[Bukhari wa Muslim]

۲. اللہ کا کوئی مثل نہیں

قال تعالى:

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. [النحل: ۷۴]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

پس اللہ کیلئے مثالیں نہ گھڑو۔ بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ [سورۃ النحل ۷۴]

2. Allah ka koi maseel nahin

Allah Ta'ala ne farmaya:

Pas Allah ke liye misalein na ghado. Beshak Allah jaanta hai aur tum nahin jante. [Surah an-Nahal 74]

قال تعالى:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. [الشورى: ۱۱]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں۔ [سورۃ الشوریٰ ۱۱]

Allah Ta'ala ne farmaya:

Allah ke misl koi cheez nahin. [Surah Ash-Shura 11]

۳. اللہ کا کوئی سمی نہیں

قال تعالى:

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. [مریم: ۶۵]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

کیا تم کسی کو جانتے ہو جو اللہ کی طرح ہو؟ [سورۃ مریم ۶۵]

3. Allah ka koi samiyy nahin

Allah Ta'ala ne farmaya:

Kya tum kisi ko jante ho jo Allah ki tarh ho? [Surah Maryam 65]

۴. اللہ کے کوئی بیوی نہیں

قَالَ مُجَاهِدٌ:

{وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} يَعْنِي: لَا صَاحِبَةَ لَهُ.

[تفسیر ابن کثیر (۸/ ۵۲۹)]

مجاہد ﷺ فرماتے ہیں:

{وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} یعنی اس کی کوئی بیوی نہیں۔ [تفسیر ابن کثیر]

4. Allah ki koi biwi nahin

Mujahid ﷺ farmate hain:

{وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} yaani us ki koi biwi nahin. [Tafseer Ibne kaseer]

قال تعالى:

أَنِّي يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً. [الأَنْعَامُ: ۱۰۱]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کے بیوی ہی نہیں۔ [سورۃ الانعام ۱۰۱]

Allah Ta'ala ne farmaya:

Allah Ta'ala ke aulad kaise hosakti hai jabke us ke biwi hi nahin.

[Surah al-An'aam 101]

۵. اللہ کا کوئی عدل نہیں

قال تعالى:

ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. [الأنعام: ۱]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

پھر اس کے باوجود کفر کرنے والے دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ [سورۃ الانعام ۱]

5. Allah ka koi adal nahin

Allah Ta'ala ne farmaya:

Phir us ke bawajood kufr karne wale dusron ko apne Rabb ke barabar qarar de rahe hain. [Surah al-An'aam 1]

۶. اللہ کے کوئی شریک نہیں

قال تعالى:

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبَّرَهُ تَكْبِيرًا. [الإسراء: ۱۱۱]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اور آپ کہہ دیجیے: تمام تعریف اللہ ہی کیلئے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا ہے، اور نہ ہی اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ ہی کمزوری کے سبب وہ کسی مددگار کا محتاج ہے۔ پس تم اس کی بڑائی بیان کرتے رہو۔ [سورۃ الاسراء ۱۱۱]

6. Allah ke koi shareek nahin

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aur aap keh deejiye: tamam tareef Allah hi ke liye hai jis ne kisi ko apna beta nahin banaya hai, aur na hi us ki saltanat min koi us ka shareek hai aur na hi kamzori ke sabab woh kisi madadgaar ka mohtaj hai. Pas tum us ki badaee bayan karte raho. [Surah al-Isra 111]

